

# Arabic Conversation



Grade – 1st

شېخ ارشد بشير عمرى

مدنى

**Shaikh Arshad Basheer  
Umari Madani**

Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, KSA), MBA.  
Founder & Director of AskIslamPedia.com  
Chairman: Ocean The ABM School, Hyd.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كيف حالك

الحمد لله

## الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	Who are you?	آپ کون ہیں؟	Man anta?	مَنْ أَنْتَ؟	۱
	What is your name?	آپ کا نام کیا ہے؟	Masmuk?	مَا اسْمُكَ؟	۲
	Come here!	یہاں آئیے!	Ta'aal huna	تَعَالِ هُنَا	۳
	Go there!	وہاں جائیے!	Izhab hunaak	إِذْهَبْ هُنَاكَ	۴
	Where did you come from?	آپ کہاں سے آئے ہیں؟	Min aina ji't?	مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟	۵
	How are you?	آپ کا کیا حال ہے۔	Kaifa haaluk?	كَيْفَ حَالُكَ؟	۶
	Where is your home?	آپ کا گھر کہاں ہے۔	Ayna baituk?	أَيْنَ بَيْتُكَ؟	۷
	sit beside me or sit with me	میرے پاس بیٹھ جائیے۔	Ijlis indi \ udnu minni \ taqarrab ilay	إِجْلِسْ عِنْدِي / أَدْنُ مَعِي / تَقَرَّبْ إِلَيَّ	۸
	Sit properly	اچھی طرح بیٹھیے۔	Ijlis sawiyyan	إِجْلِسْ سَوِيًّا	۹
	Make yourself comfortable	آرام سے بیٹھیے۔	Istarih	اسْتَرِحْ	۱۰
	Make space for other to sit	کھل کر بیٹھیے۔	Tafassah fil majaanisi	تَفَسَّحْ فِي الْمَجَالِسِ	۱۱
	Where are you going?	آپ کہاں جا رہے ہیں۔	Ayna tazhab \ ayna tarooh	أَيْنَ تَذْهَبُ / أَيْنَ تَرُوحُ	۱۲
	I am thirsty	میں پیاسا ہوں۔	Ana atshaan	أَنَا عَطْشَانُ	۱۳
	Please bring water for me	پانی لائیے۔	Jib maa' \ I'ti bil maa'	جِبْ مَاءً / اِئْتِ بِالمَاءِ	۱۴
	Bring it quickly	جلدی لائیے۔	Jib bisur'ah	جِبْ بِسُرْعَةٍ / أَعْطِنِي بِسُرْعَةٍ	۱۵

## الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربی	S.No
	Bring it chilled water	مجھے ٹھنڈا پانی پلائیے۔	Isqini maa'an baridan	إِسْقِنِي مَاءًا بَارِدًا	۱۶
	Don't give me hot water	مجھے گرم پانی مت پلاؤ۔	La tasqini maa'an hameeman	لَا تَسْقِنِي مَاءًا حَمِيمًا	۱۷
	Give me pure water	تازہ پانی پلائیے۔	Jib maa'an jayyidan\ taazijan	جِبِّ مَاءًا جَيِّدًا / طَازِجًا	۱۸
	Don't eat dry bread	سوکھی روٹی مت کھائیے۔	La ta'kul khubzan jaaffan	لَا تَأْكُلْ خُبْزًا جَافًا	۱۹
	I am hungry	میں بھوکا ہوں۔	Ana jaae' \ jau'aan	أَنَا جَائِعٌ / جُوعَانٌ	۲۰
	Please give me something to eat	مجھے کچھ کھلائیے۔	At'imni shaian	أَطْعِمْنِي شَيْئًا	۲۱
	I am full/my stomach is full.	میں سیر ہو گیا۔	Shabi'tu	شَبِيتُ	۲۲
	Heat the water	پانی گرم کیجیے۔	Sakkhinill maa'	سَخِّنِ الْمَاءَ	۲۳
	Cool the water	پانی ٹھنڈا کیجیے۔	Barridil maa'	بَرِّدِ الْمَاءَ	۲۴
	The water has been heated	پانی گرم ہو گیا۔	Hummal maa'	حُمَّ الْمَاءَ	۲۵
	Water has been cooled.	پانی ٹھنڈا ہو گیا۔	Baridal maa'	بَرِّدَ الْمَاءَ	۲۶
	Keep quiet. may Allah have mercy on you	اللہ آپ پر رحم کرے ، چپ ہو جائیے۔	Uskut, Allahu yarhamuk	أَسْكُتْ، اللَّهُ يَرْحَمُكَ	۲۷
	Walk slowly	آہستہ چلیے۔	Hawnan hawnan\ ala rislik	هَوْنًا هَوْنًا / عَلَي رِسْلِكَ	۲۸
	What are you reading?	آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟	Maaza taqra'?	مَاذَا تَقْرَأُ؟	۲۹
	I am reading my lesson.	میں اپنا سبق پڑھ رہا ہوں۔	Aqra'au darsi	أَقْرَأُ دَرْسِي	۳۰
	Read loudly	بلند آواز سے پڑھیے۔	Iqra bi sautin aalin	إِقْرَأْ بِصَوْتٍ عَالٍ	۳۱

## الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	He ran away when I came.	میرے آنے پر وہ بھاگ نکلا۔	Wa huwa qad farra inda ma ji'tu	وَهُوَ قَدْ فَارَّ عِنْدَ مَا جِئْتُ	۳۲
إيش أخبارك/ إيش يَعمَلُون	What is going on?	کیا ہو رہا ہے؟	Maaza ya'maloon	مَاذَا يَعمَلُون	۳۳
	Don't even ask that!	وہ تو پوچھو ہی مت	Fazlan an zaalik	فَضْلًا عَن ذَٰلِكَ	۳۴
الصَّوَابُ مَعَكَ	You are right	آپ ٹھیک کہتے ہیں۔	Anta saaib	أَنْتَ صَابِبٌ	۳۵
أَنْتَ غَلَطَانُ	It is your mistake	آپ غلطی پر ہیں۔	Innaka mukhti'un	إِنَّكَ مُخْطِئٌ	۳۶
خَلِّيكَ عِنْدَكَ / خَلِّيبِهِ جَانِبًا	Set it aside	اس کو ایک طرف رکھ دیجیے۔	za'hu jaaniban	ضَعُهُ جَانِبًا	۳۷
	Yes, now you said it right.	جی ہاں، اب آپ نے ٹھیک کہا۔	N'am al'aan qulta sadeedan	نَعَمْ الْآنَ قُلْتَ سَدِيدًا	۳۸
	Like or as	جیسا کہ / چونکہ	Kamaa	كَمَا	۳۹
	Like that	جیسا کہ وہ۔	Kamaa huwa	كَمَا هُوَ	۴۰
	As you wish	جیسے آپ مناسب سمجھیں۔	Kama tara	كَمَا تَرِي	۴۱
	The best opinion	غالباً۔	Alar-raajeh	عَلَى الرَّاجِحِ	۴۲
	At least	کم سے کم۔	Alal aqal	عَلَى الْأَقْلِ	۴۳
مَا اسْتَطَعْتَ / بِإِمْكَانِكَ	However it may be possible	جیسے بھی ممکن ہو	Kaifa ma amkan	كَيْفَ مَا أَمْكَنَ	۴۴
	As much as possible	جتنا ہو سکے	Qadra ma amkan	قَدْرًا مَا أَمْكَنَ	۴۵
	As soon as possible	جتنی جلدی ہو سکے۔	Bi-asra' ma yumkin	بِأَسْرَعٍ مَا يُمَكِنُ	۴۶
مَا بِكَ يَا رَجُلٌ؟	What happen to him?	اسے کیا ہو گیا؟	Ma lahu ?	مَا لَهُ؟	۴۷

## تعاير مفيدة

Useful expressions	مفيد تعبيرات	تعاير مفيدة	02
Thank you!	آپ کا شکر یہ	Shukran lak	شُكْرًا لَكَ ١
Please!	برائے مہربانی	Min fazlik	مِنْ فَضْلِكَ ٢
Excuse me!	معاف کیجیے	Saamihni	سَامِحْنِي ٣
All right!	ٹھیک ہے	Tayyib	طَيِّبٌ ٤
That's right	ٹھیک ہے	Hasanan	حَسَنًا ٥
You are welcome.	خوش آمدید	Ahlan bik (ahlan wa sahlān)	أَهْلًا بِكَ (أَهْلًا وَسَهْلًا) ٦
I'm sorry!	مجھے افسوس ہے میں معذرت خواہ ہوں۔	Aasif	أَسِيفٌ ٧
Never mind!	کوئی بات نہیں	Baseet	بَسِيطٌ (لَا يَهْمُكَ) ٨
Perhaps.	کبھی کبھار	Rubbama	رُبَّمَا ٩
Excuse me	میں معافی مانگتا ہوں۔	Afwan	عَفْوًا ١٠
I hope so.	میں امید کرتا ہوں	Azmalu zaalik	أَمَلٌ ذَلِكَ ١١
Of course.	بے شک	Bittab'a\ tab'an	بِالطَّبَعِ / طَبَعًا ١٢
Sure (Surely).	یقیناً (یقین سے)	Bitta'keed	بِالتَّكْيِيدِ ١٣
Right now.	ابھی	Haalan / Al-aan	حَالًا / الْآنَ ١٤
As usual.	ہمیشہ کی طرح	Kal'aadah \Aadatan kalmu'taad	كَالْعَادَةِ / عَادَةً / كَالْمُعْتَادِ ١٥
In general.	عام طور پر	Alal umoom	عَلَى الْعُمُومِ ١٦
At least.	کم از کم	Alal aqal	عَلَى الْأَقْلِ ١٧
Not at all.	بالکل	Itlaaqan	إِطْلَاقًا ١٨
For a while.	تھوڑی دیر کے لیے	Li fatratim maa	لِفَتْرَةٍ مَّا ١٩
By the way.	کسی بھی حال میں	Ala ayyi haal	عَلَى أَيِّ حَالٍ ٢٠
Just a minute.	ایک منٹ	Daqeeqah waahidah	دَقِيقَةً وَاحِدَةً ٢١
A little bit.	تھوڑا	Qaleelan	قَلِيلًا ٢٢
If necessary.	اگر ضروری ہو تو	Iza kaana zurooriyyan	إِذَا كَانَ ضَرُورِيًّا ٢٣

## تعاير مفيدة

Not so fast.	اس رفتار سے نہیں	Laisa bihaazihis sur'ah	لَيْسَ بِهَذِهِ السَّرْعَةِ	۲۴
Not long ago.	کچھ دیر پہلے	Laisa min zamanin ba'eed	لَيْسَ مِنْ زَمَنٍ بَعِيدٍ	۲۵
Side by side.	پہلو بہ پہلو	Jamban ila jambin	جَنْبًا إِلَى جَنْبٍ	۲۶
More and more.	زیادہ سے زیادہ	Aksar fa aksar	أَكْثَرُ فَأَكْثَرُ	۲۷
No one else.	کوئی دوسرا نہیں	Ma min ahadin aakhar	مَا مِنْ أَحَدٍ آخَرَ	۲۸
This and that.	یہ اور وہ	Haaza wa zaak	هَذَا وَذَلِكَ	۲۹
That's too bad.	برا انجام ہوگا۔	Sayyi'un lil-ghaayah	سَيِّئٌ لِلْغَايَةِ	۳۰
At last.	آخر کار	Akheeran	أَخِيرًا	۳۱
On his way.	راستہ میں	Fi tareeqihi	فِي طَرِيقِهِ	۳۲
On the way back.	واپسی کی راہ میں	Fi tareeqil audah	فِي طَرِيقِ الْعُودَةِ	۳۳
Each other.	ایک دوسرے کے لیے	Ba'zuhum liba'z	بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ	۳۴
Per person.	ایک آدمی کے لیے	Lish-shakhsil wahid	لِلشَّخْصِ الْوَاحِدِ	۳۵
For rent.	کرایہ کے لیے	Lil 'eejaar	لِلْإِجَارِ	۳۶
For sale.	فروخت کے لیے	Lil-bae'	لِلْبَيْعِ	۳۷
No problem. (It's not a problem).	مشکل کی بات نہیں	Maa fi mushkilah	مَا فِي مُشْكَلَةٍ	۳۸
How exciting!	یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔	Kam haaza mudhish!	كَمْ هَذَا مُدْهِشًا!	۳۹
Watch out / Look out!	چوکنا ہو جاؤ	Intabih	إِنْتَبِهْ	۴۰
Be careful!	ہوشیار رہو	Ihzar	إِحْذَرْ	۴۱
Don't forget!	مت بھولو	La tansa	لَا تَنْسَ	۴۲
Have a seat!	بیٹھ جائیے	Tafazzal biljuloos / tafazzal ijlis	تَفَضَّلْ بِالْجُلُوسِ / تَفَضَّلْ وَاجْلِسْ	۴۳
Help me!	میری مدد کیجیے	Saa'idni	سَاعِدْنِي	۴۴
Wait for me!	میرا انتظار کیجیے	Intazirnee	إِنْتَظِرْنِي	۴۵

## الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربي	S.No
	Pleasant place	خوشگوار مقام۔	Al-makaanul mureeh	الْمَكَانُ الْمُرِيحُ	۴۸
	Be careful next time.	آئندہ احتیاط کیجیے۔	Ihtariz marratan ukhra	إِحْتَرِضْ مَرَّةً أُخْرَى	۴۹
	Don't do it again!	پھر ایسا نہ کرنا۔	La tu'ed marratan ukhra	لَا تُعِدْ مَرَّةً أُخْرَى	۵۰
	Stay away from me! get out of here!	میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔	Ibta'id an amaami	إِبْتَعِدْ عَنِ آمَامِي	۵۱
	Come here quickly!	جلدی میرے پاس آؤ۔	Asri' ilay	أَسْرِعْ إِلَيَّ	۵۲
	This rumor is false. Or this is not the reality. Or this news is not correct.	یہ افواہ غلط ہے۔	Hazal khabru maa fish \laa shai/ maa fi haqeeqah	هَذَا الْخَبْرُ مَا فِشْنَ لَا شَيْئًا مَا فِي حَقِيقَةٍ	۵۳
	I will soon die of starvation.	عنقریب میں بھوکا مر جاؤں گا۔	Sa-amootu jau'an	سَأَمُوتُ جَوْعًا	۵۴
	My work can't be done without him.	اس کے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا۔	Lastu astaghni anhu	لَسْتُ أَسْتَغْنِي عَنْهُ	۵۵
	Hold it tightly	اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔	Iqbiz alaihi jayyidan	إِقْبِضْ عَلَيْهِ جَيِّدًا	۵۶
	I am too busy in my work.	میں اپنے کام میں بہت مصروف ہوں۔	Ana mashgoolun fi amali	أَنَا مَشْغُولٌ جِدًّا فِي عَمَلِي	۵۷
	I am with you.	میں آپ کے ساتھ ہوں۔	Ana ma'ak	أَنَا مَعَكَ	۵۸
	He is unhappy with you	وہ آپ سے ناراض ہے۔	Huwa saaqitun alaik	هُوَ سَاخِطٌ عَلَيْكَ	۵۹
	How worthy is it to you?	آپ کے نزدیک اس کی کیا قیمت ہے؟	Bikam yusaawi indak	بِكَمْ يُسَاوِي عِنْدَكَ	۶۰
	I don't know	مجھے اس کا علم نہیں ہے۔	Laisa li bihi ilm	لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ	۶۱
	I am apologizing to you or sorry.	میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔	A'taziru ilaikum	أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ	۶۲
	I regret it	مجھے اس پر افسوس ہے۔	Ana muta-assifun alaih	أَنَا مُتَأَسِّفٌ عَلَيْهِ	۶۳



## الكلمات العربية المستخدمة اليومية

Optional	English	اردو	Roman	عربی	S.No
مَاعِنْدُهُ اَدَبٌ	His dealing is not good	وہ بے ادب ہے۔	Rajulun ghairu tayyib	رَجُلٌ غَيْرُطَيِّبٍ	۶۴
	I don't like his dealing.	مجھے اس کی معاملت داری پسند نہیں۔	La uhibbu wala arza bitta'ammuli m'ahu	لَا اُحِبُّ وَلَا اَرْضُ بِالْتَّعَامِلِ مَعَهُ	۶۵
	I didn't see anything beautiful then this/ nothing is better then this	میں نے اس سے خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔	Maa ra'aytu shai'an ajmala minhu	مَا رَأَيْتُ شَيْئًا اَجْمَلًا مِنْهُ	۶۶
	Don't get angry	غصہ نہ کیجیے۔	la taghzab	لَا تَغْضَبْ	۶۷
	Don't be jealous of each other	ایک دوسرے سے حسد نہ کیجیے	La tahaasadoo	لَا تَحَاسَدُوا	۶۸
	Thank you sir	میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔	Mashkoorun min fazeelatikum	مَشْكُورٌ مِنْ فَضِيلَتِكُمْ	۶۹
	Beware of places where one can become a victim of false accusations	تہمت کی جگہوں سے بچو۔	Ittaqoo mawaazi'at-tuham	اتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّهْمِ	۷۰
أَحْبَبْتُ أَنْ أَلْقَى بِكُمْ	I am pleased to meet you	مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔	A'jabanee liqaa'ukum	أَعْجَبَنِي لِقَاءُكُمْ	۷۱
	I hope you will forgive me	امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔	Afwan lau samaht	عَفْوًا أَوْ سَمَحْتَ	۷۲
	You are wrong and I am right	آپ غلط ہیں اور میں صحیح ہوں۔	Anta mukhtium wa ana museebun	أَنْتَ مُخْطِئٌ وَأَنَا مُصِيبٌ	۷۳
	You deserve a punishment	آپ ملامت کے مستحق ہیں۔	Anta tastahiqullu'ma	أَنْتَ تَسْتَحِقُّ اللُّؤْمَ	۷۴
	He had guests at his place.	اس کے ہاں مہمان آئے۔	Nazala bihiz-zaif	نَزَلَ بِهِ الضَّيْفُ	۷۵
	My brother had fever	میرے بھائی کو بخار ہو گیا۔	Akhi yu'aani bil humma	أَخِي يُعَانِي بِالْحُمَّى	۷۶
إِلَيَّ إِلَيَّ	Bring him to me.	اسے میرے پاس لاؤ۔	Alaiyya bihi	عَلَيَّ بِهِ	۷۷
	This is disgraceful for you or this humiliating for you.	یہ آپ کے لیے بہت شرم کی بات ہے۔	Ala tastahi	أَلَا تَسْتَحِ	۷۸
أَحْبُكَ مِنْ قَلْبِي	I love you from the bottom of my heart.	میں آپ کو تہ دل سے چاہتا ہوں۔	Uhibbuka min a'maaqi qalbi	أَحْبُكَ مِنْ أَعْمَاقِ قَلْبِي	۷۹

Abm workshop notes



Jazakumullahu kairan